

Dua - e - Ahaad

Arabic | Roman English | Urdu | Gujarati

دعاء عہد



Muhammad

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النُّوْرِ الْعَظِيْمِ

ya Allah! Ae Ba-azmat Nuur Ke
Parvardigaar

يا الله! اے با عظمت نور کے پروردگار

अथ अल्लाह महान नूरना भाविक



وَرَبُّ الْكُرْسِيِّ الرَّفِيعُ

Ae Aala Kirdar Ke Malik

اے اعلیٰ اقتدار کے مالک

آنے اعلیٰ کرسینا مالیک



وَرَبِّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

Ae Mauje Marte Samandar Ke
Parvardigar

اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار

अने धुधवाता समंदरना भालिक



وَمُنزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ

**Ae Taurait Aur Injiil Aur Zabuur Ko
Nazeel Farmane Vale**

آے توریت اور انجیل اور زبور کو
نازل فرمانے والے

**अने तौरैत, ञभूर अने ँन्जिलने नाजिल
करवावावा**



وَرَبِّ الظِّلِّ وَالْحَرُورِ

Ae Saaye Aur Dhup Ke Parvardigaar

اے سائے اور دھوپ کے رب

अने छांयडा तथा तडकाना भाविक,



وَمُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

Ae Quran Azeem Ko Nazil Karne Vale

اے قرآن عظیم کو نازل فرمانے والے

महान कुरआनने नाज़िल करवावाला



وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

Ae Parvardigaar Malaika Muqarrabin Ke

اے پروردگار ملائکہ مقربین کے

मुर्ख मलायेकाओ ना मालिक



وَ الْاَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِیْنَ

Ae Parvardigaar Malaika Muqarrabin Ke

اور امبیا اور رسولوں کے پروردگار

اُمبیا तथा मुरसलीन (अ.स.)ना मालिक



اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ

**Ae Allah Mai Tujhse Sawal Karta Hu
Teri Kareem Jaat Ke Vasile Se**

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہو تیری کریم
ذات کے وسیلے سے

**اے اللہ! تُوں تارے پاسے سوال کَرے تُوں، تارے
اُچار جاتنا واسطی.**



وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِيْرِ

Teri Nurani Hasti Ke Vasile Se

تیری نورانی ہنستی کے وسیلے سے

تاری جاتنا اٹھاتا نورنا वास्ताथी



وَمُلْكِكَ الْقَدِيْمِ

Aur Tere Qadeem Mulk Se Vasile Se

اور تیرے قدیم ملک کے وسیلے سے

تاری ہنمشنی سلتناتنا واستاھی



يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

**Ae Hamesha Jindah Aur Qaaem
Rehne Vali Jaat**

ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات

**अय हंमेशाथी ज़वंत! अय हंमेशा बाकी
रहेवावावा**



اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اشْرَقَتْ بِهِ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ

**Mai Tere Us Naam Ke Vaste Se Sawal Karta
Hu Jis Ke Zariye Roshan Hai Aasman Aur Zameen**

میں تیرے اُس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں
جس کے ذریعے روشن ہیں آسمان اور زمین

હું તારા એ નામના વાસ્તાથી સવાલ કરું છું કે જેના
કારણે આસમાનો અને ઝમીનો ચમકી રહ્યા છે,



وَبِاسْمِكَ الَّذِي يَصْلَحُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ

Aur Tere Us Naam Ke Sadqe Sawal Karta Hu Jis Ke Zariye Avvaliin Aur Aakherin Ke Bigde Kaam Bante Hai

اور تیرے اُس نام کے صدقے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے اوّلین اور آخرین کے بگڑے کام بنتے ہیں

अने तारा अे नामना वास्ताथी डे जेना थडी अव्वल अने
आभरनी बाबतोनी सुधारणा थाय छे



يَا حَيًّا قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ

Ae Har Jindah Se Pehle Jindah

اے ہر زندہ سے پہلے زندہ

अथ दरेक जिवंतनी पडेला तंमेशाथी जिवंत



وَيَا حَيًّا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ

Har Jindah Se Baad Jindah Rahne
Vale

ہر زندہ کے بعد زندہ رہنے والے

अने दरेक जिवंतनी पछी पण हंमेशा जिवंत
रहेनार,



وَيَا حَيًّا حِينَ لَا أَحْيَى

Aur Ae Aise Jindah Jab Koi Jindah
Na Tha

اور اے ایسے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا

અને એવા જીવંત કે જે સમયે કોઈ જીવંત ન હતું
(તે ત્યારે પણ જીવંત હતો)



يَا مُحْيِي الْمَوْتِي وَمُمِيتَ الْاَحْيَاءِ

**Ae Murdo Ko Jindagi Karne Vale Aur
Jindagi Ko Maut Dene Vale**

اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور زندوں کو
موت دینے والے

अथ मुर्दाओने ज़वंत करनार अने ज़वंत
लोकोने मृत्यु आपनार,



يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

Aur Aise Jindah Jab Koyi Jindagi
Na Tha

اور ایسے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا

अथ हंमेशना ज़ुवंत,तारी सिवाय बीजो
कोई ईबादतने लायक नथी,



اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَانَا الْإِمَامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَّ

**Ae Allah! Nazil Farma Hamare Aaqa
Imam Hadi Aur Mehdi Par**

اے اللہ! نازل فرما ہمارے آقا امام ہادی
اور مہدی پر

अथ अल्लाहा तुं अमारा मौला, ईमाम,
हादी, महेदी



الْقَائِمُ بِأَمْرِكَ

Jo Tere Amr Se Qaeem Hai

جو تیرے آمر سے قائم ہیں

تارا لُکھمنی ساٹھ کھام کھنارنہ امارو
سلاام پلُویاڈی ڈے.



صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ اَبَائِهِ الطَّاهِرِيْنَ

Aalah Ki Salwat Ho Unke Paak-o-pakiza Validain
Par Allah Ki Rehmat

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَوْر اُنْ كِے پاك و پاكيزه والدين
پر اللّٰه كى رحمت

तेमना उपर अने तेमना पवित्र बापदादाओ उपर
अल्लाहनी रहमत नाजिल थाय



عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ

Tamam Momineen-o-mominaat Ke Janib Se
Zamin Ke Mashriq Aur Magrib

تمام مومنین و مومنات کی جانب سے زمین کے
مشرق اور مغرب

تمام مومنینو અને મોઅમેનાત કે જેઓ જમીનના
પૂર્વ તથા પશ્ચિમમાં



وَمَغَارِيبَهَا سَهْلَهَا وَجَبَلِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا

**Hamvaar Zameen Aur Pahad Mai Khushki
Aur Tari Mai**

ہموار زمين اور پہاڑ میں خشکی اور تری میں

રણમાં તથા પહાડો ઉપર અને ઘરતી ઉપર તથા
દરિયાઓમાં વસે છે તે બધાની તરફથી



وَعَنِّي وَعَنْ وَاٰلِدَائِيَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ

**Mere Janib Aur Mere Validain Ki Janib
Se Aisa Durud**

میری جانب اور میرے والدین کی جانب
سے ایسا دُرود

મારા તરફથી અને મારા માં-બાપની તરફથી
એવી સલવાત



زِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

**Jis Ka Vazn Arsh-e-khudavandi Aur Uske
Kalamat Ki Siyahi Jitna Hai**

جس کا وزن عرشِ خُداوندی اور اس کے
کلمات کی سیاہی جتنا ہو

કે જેનું વજન અલ્લાહના અર્શની જેટલું હોય, તેના
કલામથી લખાયેલ શબ્દો બરોબર હોય



وَمَا أَحْصَاهُ عَلَيْهِ وَأَحَاطَ بِهِ كِتَابُهُ

Aur Jis Ka Ilm Khuda Mai Khudavandi
Mai Ho Aur Kitab-e-khuda Ne Jis Ka
Ihaata(surrounding) Kar Rakha Ho

اور جن کا شمار علم خداوندی میں ہو اور کتاب
خدا نے جس کا احاطہ کر رکھا ہو

જેની ગણતરી તેના ઈલ્મમાં છે અને જેને તેની
કિતાબે ઘેરી લીધેલ છે.



اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُجِدُّ لَهٗ فِيْ صَبِيْحَةِ يَوْمِيْ هٰذَا

**Ae Allah! Mai Aaj Ke Din Subh Ke Vaqt
Unke Liye Tajdid Karta Hu**

اے اللہ! میں آج کے دن صبح کے وقت ان
کے لئے تجدید کرتا ہوں

अय अल्लाह! हुं आजना दिवसनी सवारे



وَمَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِي عَهْدًا وَعَقْدًا

Aur Jitne Din Meri Jindagi Baki Rahenge
Mu'aahada (agreement), Vaabastagii

اور جتنے دن میری زندگی باقی رہے گی
معاہدہ، وابستگی

અને મારી જિંદગીના જેટલા પણ દીવસો જીવતો રહીશ
હું તેમના માટે મારો વાયદો અને કરાર



وَبَيْعَةٌ لَهُ فِي عُنُقِي

Aur Bai'at Ka Qilaada Apni Gardan
Mai Daalta Hu

اور بیعت کا قلاادہ اپنی گردن میں ڈالتا ہوں

અને બયઅત કે જે મારી ગરદન ઉપર છે, તેને
તેમના માટે દોહરાવતો રહીશ.



لَا اَحُوْلُ عَنْهَا وَلَا اَزُوْلُ اَبَدًا

**Jis Se Na Mai Bar-gashta(change) Honga
Na Hi Use Khatm Karunga**

جس سے نہ میں برگشتہ ہوں گا نہ ہی اُسے
ختم کروں گا

تُوں نے نااھی کوشش نہاںی اُنے کڈیپاڑا اڈوڈیاش نہاںی۔



اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ اَنْصَارِهِ وَاَعْوَانِهِ

**Ae Allah! Tu Mujhe Unke Naseero Aur
Madadgaaro Mai Qarar De**

اے اللہ! تو مجھے اُن کے ناصروں اور مددگاروں
میں قرار دے

अथ अल्लाह तुं मने तेमना मददगारोमां,
तेमना सहायकर्ताओमां,



وَالذَّآبِیْنَ عَنْهُ وَالْمُسَارِعِیْنَ اِلَیْهِ

Jo Unki Janib Se Difaa Karne Vale Aur Unki
Janib Tezi Se Jane Vala Hu

جو اُن کی جانب سے دفاع کرنے والے اور اُن کی جانب
تیزی سے جانے والے ہوں

तेमनुं रक्षा करवावालाओमां, तेमनी तरङ्ग मऽपथी
आगत वधी जनाराओमां



فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ

Apni Hajato Ko Barlane Ke Liye

اپنی حاجتوں کو بر لانے کے لئے

تہمنی حاجتوںے پوری کرنا ماتے



وَالْمُتَثَلِّينَ لِأَوْامِرِهِ

Aur Unke Hukm Ko Bajalane Ke Liye

اور اُن کے حکم کو بجالانے کے لئے

तेमना हुकमोनुं पावन करवावाणाओमां



وَالْمُحَامِلِينَ عَنْهُ

Aur Unki Himayat Karne Ke Liye

اور اُن کی حمایت کرنے کے لئے

तेमना तरफ़्थी बयाव करवावाणामिं



وَالسَّابِقِينَ إِلَىٰ إِرَادَتِهِ

**Aur Unke Iradah Ke Tahmil Ke Liye
Bazi Lejane Vale**

اور اُن کے ارادوں کی تحمیل کے لئے بازی
لے جانے والے

तेमना ईरादाओ तरङ्ग ऊपथी आगण वधी
जनाराओमां



وَالْمُسْتَشْهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ

**Aur Unke Saamne Darja-e-shahadat Par
Faaiz Hone Vaale**

اور اُن کے سامنے درجہ شہادت پر فائز
ہونے والے

अने तेमनी नजरनी सामे शहादतनो दरज्जो प्राप्त
करनाराओमां शामिल करी दे



اَللّٰهُمَّ اِنْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ

**Ae Allah! Agar Mere Aur Unke Darmiyaan
Maut Haa'il Ho Gayi**

اے اللہ! اگر میرے اور ان کے درمیان
موت حائل ہو گئی

**अथ अल्लाह! जो मारी अने तेमनी दरम्यान (जुड़ूर पडेला)
मौत आवी जाय**



الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَىٰ عِبَادِكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

Jise Tune Apne Bando Ke Liye Hatmi
Taur Par Likh Diya Hai

جسے تو نے اپنے بندوں کے لئے حتمی
طور پر لکھ دیا ہے

(ते भौत) के जेने तेँ तारा बंदाओ माटे
थोक्कसपणे निश्चित करेल छे



فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُؤْتَرًّا كَفَنِي

To Phir Mujhe Meri Qabr Se Baraamad Karna
Kafan Zeb-e-tan Kiye Huve.

تو پھر مجھے میری قبر سے برآمد کرنا کفن
زیب تن کئے ہوئے

તો તું મારી કબરમાંથી એવી રોતે બહાર કાઢ
કે કફન પહેરેલું હોય



شَاهِرًا سَيِّفِي مُجَرَّدًا قَنَاتِي

Talvaar Khinche Huve Aur Neze
Nikale Huve

تلوار کھینچے ہوئے اور نیزہ نکالے ہوئے

तलवारने भ्यानमांथी काढेली होय, नेळाने
उपाडेल होय



مَلَبِّيَا دَعْوَةَ الدَّاعِي

**Bulane Vale Ki Davat Par Labbaik
Kehte Huve**

بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے

پوکارنا رنی آواہ اور لبیک کہتے
ہاں ہاں



فِي الْحَاضِرِ وَالْبَادِي

Shahero Mai Aur Sehra Mai

شہروں میں اور صحرا میں

અને શહેરમાં હોઉં કે રણમાં, ગમે તે જગ્યાએથી



اللَّهُمَّ ارِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالْغُرَّةَ الْحَبِيدَةَ

**Ae Allah! Tu Mujhe Unka Chehra-e-zeba Dikhla
De Aur Rukh-e-roshan Ki Ziyarat Karar De**

اے اللہ! تو مجھے اُن کا چہرہ زیبا دکھلا دے اور رخ روشن
کی زیارت کرار دے

**अथ अल्लाह! मारा ईमामना मुबारक यहेरानी अने
यभकता मुअनी जियारत नसीब कर तेमना दीदारथी
मारी नजरने नूरानी बनाव**



وَ اَكْحُلُّ نَاطِرِيْ بِنَظْرَةٍ مِّنِّيْ اِلَيْهِ

**Aur Unko Ek Nazar Dekhne Se Meri Aankho
Ko Surmagin Banade**

اور اُن کو ایک نظر دیکھنے سے میری آنکھوں
کو سرگیں بنا دے

**तेमना दीदार थकी भारी नजरोने रोशन-प्रकाशीत
बनावी दे**



وَ عَجِّلْ فَرَجَهُ

Aur Unke Kushaish Mai Jaldi

اور اُن کی کشائش میں جلدی

तेमना जुल्दुमां जल्दी कर



وَسَبِّحْ فَخَرِّجَهُ

Aur Zahoor Mai Aasani Payda Karde

اور ظہور میں آسانی پیدا کر دے

تہمنا اُڑھرنے سرنہ بناوی دے،



وَ اَوْسِعْ مَنَهَجَهُ

Aur Unki Rakho Ko Vus'at Ata Karde

اور اُن کی راہوں کو وسعت عطا کر دے

تہمنا رستانہ विशाल करी दे



وَاسْأَلْكَ بِرِيٍّ فَحَجَّتَهُ

**Aur Mujhe Unke Raste Par Kamjan
Karde**

اور مجھے ان کے راستے پر کامزن گر دے

भने तेभना रस्ता उपर यलाव



وَ اَنْفَعِدْ اَمْرًا وَاَشْدُدْ اَزْرًا

**Aur Unka Hukm Ko Jari Farmade Aur Unki
Pusht Ko Mohkam Karda**

اور اُن کے حکم کو جاری فرما دے اور
اُن کی پشت کو محکم کر دے

تہمنا ڈھکھونے سٹھاپی دے اے تہمنی پیڈنے
مٹھبھوت کھی دے



وَاعْمُرِ اللّٰهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ

Aur Unke Wasile Se Apne Shahero Ko
Aabad Karde

اور اُن کے وسیلے سے اپنے شہروں کو
آباد کر دے

अथ अल्लाह! तुं तेमना थकी तारा शहरोने
आबाद करी दे



وَ اَحْيِيْ بِهٖ عِبَادَكَ

Aur Apne Bando Ko Hayat Se Navaj De

اور اپنے بندوں کو حیات سے نواز دے

અને તેમના થકી તારા બંદાઓને સજીવન
કરી દે



فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ

Be Shak Tu Ne Kaha Hai Aur Tera Qaul
Bar Haq Hai

بے شک تو نے کہا ہے اور تیرا قول برحق ہے

કારણકે તેં ફરમાવ્યું છે અને તારું ફરમાન
સાચું છે કે



ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Khushki Aur Tari Mai Fasad Zahir Ho Gaya Aur
Ye Sab Kuch Logo Ka Apna Kiya Dhara Hai

خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا اور یہ سب کچھ
لوگوں کا اپنا کیا دھرا ہے

જમીન અને દરિયામાં લોકોની કરણીના લીધે
ફસાદ ફેલાઈ ગયો છે



فَاظْهِرِ اللّٰهُمَّ لَنَا وَوَلِيَّكَ

**Ae Allah! Tu Apne Vali Ko Hum Par
Zahir Karde**

اے اللہ! تو اپنے ولی کو ہم پر ظاہر کر دے

तो पछी अथ अल्लाह! तुं अमारा भाटे तारा
वलीने जाडेर करी दे



وَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكَ الْمُسَمَّى بِاسْمِ رَسُولِكَ

Jo Tere Nabi Ki Beti Ke Bete Ke Farjand Hai
Jin Ka Naam Tere Rasool Hazrat Mohammad Ke
Naam Par Rakha Gaya Hai.

جو تیرے نبی کی بیٹی کے فرزند ہیں جن کا نام تیرے
رسول حضرت محمد کے نام پر رکھا گیا ہے

કે જે તારા નબીની દીકરીના દીકરા છે અને જેમનું
નામ તારા નબીનું નામ છે



حَتَّىٰ لَا يَظْفَرَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْبَاطِلِ

Take Voh Batil Ki Har Quvvat Ko

تا کہ وہ باطل کی ہر قوت کو

تھاںں سۇधी ڈے तेमनी सामे डोई बातिल न आवे
जेने ते भिटावी न दे,



إِلَّا مَرْزُقَهُ وَيُحِقِّ الْحَقَّ وَيُحَقِّقَهُ

Kamiyabi Se Parah Parah Karde Aur Haq Ko
Sabit Kar Ke Us baruu-e-kaar Laae

کامیابی سے پارہ پارہ کر دیں اور حق کو ثابت
کر کے اُسے بروئے کار لائیں

न कोछ उक्क आवे जेने ते साबित न करी दे.



وَاجْعَلُهُ اللَّهُ مَفْرَعًا لِمَظْلُومِ عِبَادِكَ

**Aur Ae! Allah Tu Unhe Apne Majlum Bando
Ki Panahgah Banade**

اور اے اللہ! تو انہیں اپنے مظلوم بندوں
کی پناہ گاہ بنا دے

ن کوئی آکھ آوے جے تے سا بھیت ن کھی دے.



وَنَاصِرًا لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ نَاصِرًا غَيْرَكَ

**Aur Tu Unhe Unka Naasir Banade Jinka
Tere Siva Koy Naasir Nahi**

اور تو انہیں ان کا ناصر بنا دے جن کا
تیرے سوا کوئی ناصر نہیں

**અને તે લોકોના મદદગાર બનાવી દે કે જેઓનો તારા
સિવાય બીજો કોઈ મદદગાર નથી**



وَمُجَدِّدًا لِمَا عَطَّلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ

Aur Tajdid Karade Qur'an Ke Un Ehkam Ki
Jin Ko Mu'attal Kar Diya Gaya Hai

اور تجدید کرا دے قرآن کے اُن احکام کی
جن کو معطل کر دیا گیا

અને તારી કિતાબના તે હુકમો કે જેને રદ બાતિલ કરી
નાખવામાં આવ્યા છે તેને સજીવન કરનાર બનાવી દે



وَمُشِيْدًا لِيْمَا وَرَدَ مِنْ اَعْلَامِ دِيْنِكَ

**Aur Usko Istehkaam Bakhsh De Jo Kuch
Tere Din Ke Aaiin**

اور اُسے استحکام بخش دے جو کچھ تیرے
دین کے آئین

અને તારા દીનની જે નિશાનીઓ આવી છે તેને



وَسُنَنِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

**Aur Tere Nabi Ki Sunnat Ke Bare
Mai Varid Huva Hai**

اور تیرے نبی کی سنت کے بارے میں
وارد ہوا ہے

آنے تارا نبی (تمنا پر آنے
تمنی آاد ابر اداااااا رڈمات ااا)نا
ااا-ااa



وَاجْعَلُهُ اللَّهُمَّ مِّنْ حَصْنَتِهِ مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدِينَ

Aur Ae Allah! Tu Qararde Unhai
Un Hastiyo Mai Jinhai Tu Ne
Zalimo Ke Yuurish(attack) Se Bachaya

اور اے اللہ! تو قرار دے انہیں اُن ہستیوں میں جنہیں
تُو نے ظالموں کی یورش سے بچایا

अने अथ अल्लाह! अमने ते लोकोमां स्थान आप के
जेमने तें दुश्मनोना शरथी बचाव्या छे



اللَّهُمَّ وَسِّرْ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

**Ae Allah! Unka didar karake tu Nabi Akram
Muhammad (s.a.w)**

اے اللہ! اُن کا دیدار گرا کے تو نبی اکرم
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

अय अल्लाह! तुं तारा नबी मोहम्मद (स.अ.व.)
(तेमना पर अने तेमनी आल उपर अल्लाहनी
रहेमत थाय)ने तेमना दिदारथी पुश करी दे



پَرُوْا يَتِيْهِ وَ مَنْ تَبِعَهُ عَلٰى دَعْوَتِهِ

**Aur Unki Daawat Ka Atba(follower) Karne Valo
Ko Shadaa(happy)-o-farhaan(joyful) Karde**

اور اُن کی دعوت کا اتباع کرنے والوں کو شاداں
و فرحان کر دے

અને જેઓ તેમના ફરમાનોની તાબેદારી કરે છે
(તેમને પણ તેમના દિદારથી ખુશ કરી દે.)



وَ اَرْحَمِ اسْتِكَاثِنَّا بَعْدَهُ

**Aur Unke Baad Hamari Be-chargi
Par Raham Farma**

اور اُن کے بعد ہماری بے چارگی پر رحم فرما

अने तेमनी गयबतमां अमारी जिल्लत अने
परेशानी उपर रडेम इरभाव.



وَ عَجِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ

Aur Unke Zahoor Mai Taa'jiil Farma

اور اُن کے ظہور میں تعجیل فرما

અને અમારા માટે તેમના ઝુહૂરમાં જલ્દી કરી દે



إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا

Us Liye Ke Mukhalefin Unhe Apne Se
Duur Samajhte Hai

اس لئے کہ مخالفین انہیں اپنے سے دُور سمجھتے ہیں

कारणके लोको (विरोधीओ) जुहूरने दूर समजे छे



وَنَرَاهُ قَرِيْبًا

Aur Hum Unhe Qareeb Dekhte Hai

اور ہم انہیں قریب دیکھتے ہیں

અને અમે તેને નજદીક જાણીએ છીએ



بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Tujhe Apni Rehmat Ka Vasta Ae Sab Se
Badhkar Rehem Karne Vale

تُحِبُّهُ اِپْنِي رَحْمَتِ كَا وَاَسْطَهٗ، اے سب
سے بڑھ کر رحم کرنے والے

تاری رھمتنا وَاَسْتَاثِي اُی سُوْثِي وَاذَارے
رھم کر وَا وَا



اَلْعَجَلُ اَلْعَجَلُ يَا مَوْلَايَ
يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ

જલ્દી આવો, જલ્દી આવો,
અય મારા મૌલા,
અય સાહેબઝઝમાન.



BAB - E - ERAM



LIKE



SHARE



FOLLOW

WHATSAPP | YOUTUBE | INSTAGRAM | FACEBOOK



BAB E ERAM